



## مجھ وحی آئی کہ تم قبروں میں آزمائش میں ڈال جاؤ گے، مسیح دجال کی آزمائش کی مانند

اسما بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی ﷺ کھڑے ہوئے اور اس فتنہ کا ذکر فرمایا: جس کے ذریعے آدمی کی اس کی قبر میں آزمائش ہو گی نبی ﷺ نے جب اس کا ذکر کیا، تو مسلمانوں نے اونچی آواز سے گریہ شروع کر دیا، جس کی وجہ سے میں رسول اللہ ﷺ کی بات نہ سن سکی جب ان کے رونے کی آواز تھمی، تو میں نے اپنے قریب موجود ایک شخص سے پوچھا کہ اے فلاں! اللہ تجھے برکت دے، رسول اللہ ﷺ نے اپنی گفتگو کے آخر میں کیا فرمایا تھا؟ اس نے کہا کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ”مجھے وحی آئی کہ تم قبروں میں آزمائش میں ڈال جاؤ گے، مسیح دجال کی آزمائش کی مانند“

[صحیح] [اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے - اسے امام نسائی نے روایت کیا ہے]

اسما بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہا بتا رہی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ایک دن لوگوں کو خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے آپ ﷺ انہیں نصیحت فرما رہے تھے اور آخرت کے دن کی یاد دہانی کرا رہے تھے یہاں تک کہ آپ ﷺ نے قبر اور اس کے احوال کا ذکر شروع فرما دیا آپ ﷺ نے قبر کے امتحان کے فتنہ کا بھی ذکر کیا قبر کے فتنہ سے مراد دو فرشتوں یعنی منکر اور نکیر کا بندہ ہے اس کے رب، اس کے نبی اور اس کے دین کے بارے پوچھنا ہے اس سوال و جواب کو فتنہ کا نام اس لیے دیا گیا، کیونکہ یہ ایک بڑا آزمائش ہو گی، جس سے بندہ کے ایمان اور یقین کا امتحان لیا جائے گا جسے اس امتحان میں صحیح جواب دینے کی توفیق مل گئی، وہ کامیاب ہو گیا اور جو ناکام رہا وہ ہلاک ہو گیا جب آپ ﷺ نے اس بات کا ذکر فرمایا، تو مسلمان قبر کے اس فتنہ کے خوف سے چیخ اٹھے اس شور کی وجہ سے اسما رضی اللہ عنہا نبی ﷺ کی گفتگو نہ سن سکیں جب آواز تھمی، تو اسما رضی اللہ عنہا نے اپنے قریب بیٹھے ایک شخص سے دریافت کیا کہ اے فلاں! بارک اللہ لک، رسول اللہ ﷺ نے اپنی گفتگو کے آخر میں کیا فرمایا تھا؟ اس شخص نے آپ رضی اللہ عنہا کو بتایا کہ نبی ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کی طرف وحی کی کہ عنقریب لوگوں کی قبروں کے اندر آزمائش ہو گی، دجال کی آزمائش کی طرح یعنی جس طرح دجال کا فتنہ بڑا سخت اور مشکل ہو گا، اسی طرح قبر کا فتنہ بھی ہے

<https://sunnah.global/hadeeth/ur/show/11207>



النجاة الخيرية  
ALNAJAT CHARITY

